



سوال

(388) مہندی لگانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض لوگ پاؤں اور ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

گرمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چلتے سڑتے ہوں تو بایں صورت مرد مہندی لگا سکتا ہے عام حالات میں نہیں سنن الوداؤد میں حدیث ہے۔

«ولابجانی رجلیہ الاقال: «أخضبہما» حسنہ البانی صحیح الوداؤد کتاب الطب باب الحجامة (۳۸۵۸) المشکاۃ (۴۵۴)»

یعنی "جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہیں رنگ لے۔"

«باب الحجامة» زاد البخاری فی تاریخہ بائنا قالہ فی فتح الودود (سوالہ العون ۴/۲)

یعنی "بخاری نے اپنی تاریخ میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مہندی سے رنگ لے

(اسی طرح اگر ہاتھ یا پاؤں میں کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہو تو بطور دوام مہندی لگانا جائز ہے۔ (عبد الشکور مدنی)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ شناسیہ مدنیہ

ج 1 ص 694



محدث فتویٰ